

کل نمبر: 10

اُردو (ششم) ٹیسٹ نمبر 1

وقت: 10 منٹ

چوتھا مہینا، چوتھا ہفتہ، دوسرا دن	سلیبس: پیرا گراف (ڈاکٹر صاحب: حفظانِ صحت -- حکم دے دیتا۔) تلفظ الما، الفاظ معانی، (تفہیم عبارات) ”بھڑھیں اور بتائیں“، قواعد: فعل لازم
-----------------------------------	---

سوال نمبر 1: درج ذیل میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

(3)

1- معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام ہیں:

(الف)	دو	(ب)	تین	(ج)	پانچ	(د)	چار
-------	----	-----	-----	-----	------	-----	-----

2- ذہنی فعل جس کو صرف فاعل کی ضرورت ہو، کہلاتا ہے:

(الف)	فعل مُعَدَّی	(ب)	فعل لازم	(ج)	فعل امر	(د)	فعل نہی
-------	--------------	-----	----------	-----	---------	-----	---------

3- انسانی جسم میں مرکزی حیثیت حاصل ہے:

(الف)	دل کو	(ب)	جگر کو	(ج)	معدے کو	(د)	دماغ کو
-------	-------	-----	--------	-----	---------	-----	---------

4- نبی کریم ﷺ نے صفائی کی خاص تاکید کی ہے:

(الف)	چہرے کی	(ب)	مُنْھ کی	(ج)	مُسُوڑھوں کی	(د)	دانتوں کی
-------	---------	-----	----------	-----	--------------	-----	-----------

☆ مندرجہ ذیل عبارت پڑھ کر سوال نمبر 5 اور 6 کے جواب دیں۔

حفظانِ صحت میں وہ سب عادات شامل ہیں جو ہماری اچھی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں جسمانی صفائی، اپنے کپڑوں کی صفائی، عام استعمال کی چیزوں کی صفائی، اپنے کمرے، گھر کی صفائی اور کھانے پینے کی اشیاء کی صفائی شامل ہے۔

5- صفائی کا متضاد لفظ ہے:

(الف)	گندگی	(ب)	متوازن	(ج)	غیر متوازن	(د)	عُمدگی
-------	-------	-----	--------	-----	------------	-----	--------

6- جمع لفظ کی نشان دہی کریں:

(الف)	کرا	(ب)	عادات	(ج)	گھر	(د)	استعمال
-------	-----	-----	-------	-----	-----	-----	---------

سوال نمبر 2: فعل لازم کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔

(2)

سوال نمبر 3: اسمی میں صحت و صفائی کے موضوع پر کون بات کرتا ہے؟

(2)

سوال نمبر 4: حفظانِ صحت سے کیا مراد ہے؟

(2)

سوال نمبر 5: کون سی چیزیں حفظانِ صحت میں شامل ہیں؟

(1)

کل نمبر: 10

اُردو (ششم) ٹیسٹ نمبر 1

وقت: 10 منٹ

چوتھا مہینا، چوتھا ہفتہ، دوسرا دن	سلیبس: پیرا گراف (ڈاکٹر صاحب: حفظانِ صحت -- حکم دے دیتا۔) تلفظ الما، الفاظ معانی، (تفہیم عبارات) ”بھڑھیں اور بتائیں“، قواعد: فعل لازم
-----------------------------------	---

سوال نمبر 1: درج ذیل میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

(3)

1- معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام ہیں:

(الف)	دو	(ب)	تین	(ج)	پانچ	(د)	چار
-------	----	-----	-----	-----	------	-----	-----

2- ذہنی فعل جس کو صرف فاعل کی ضرورت ہو، کہلاتا ہے:

(الف)	فعل مُعَدَّی	(ب)	فعل لازم	(ج)	فعل امر	(د)	فعل نہی
-------	--------------	-----	----------	-----	---------	-----	---------

3- انسانی جسم میں مرکزی حیثیت حاصل ہے:

(الف)	دل کو	(ب)	جگر کو	(ج)	معدے کو	(د)	دماغ کو
-------	-------	-----	--------	-----	---------	-----	---------

4- نبی کریم ﷺ نے صفائی کی خاص تاکید کی ہے:

(الف)	چہرے کی	(ب)	مُنْھ کی	(ج)	مُسُوڑھوں کی	(د)	دانتوں کی
-------	---------	-----	----------	-----	--------------	-----	-----------

☆ مندرجہ ذیل عبارت پڑھ کر سوال نمبر 5 اور 6 کے جواب دیں۔

حفظانِ صحت میں وہ سب عادات شامل ہیں جو ہماری اچھی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں جسمانی صفائی، اپنے کپڑوں کی صفائی، عام استعمال کی چیزوں کی صفائی، اپنے کمرے، گھر کی صفائی اور کھانے پینے کی اشیاء کی صفائی شامل ہے۔

5- صفائی کا متضاد لفظ ہے:

(الف)	گندگی	(ب)	متوازن	(ج)	غیر متوازن	(د)	عُمدگی
-------	-------	-----	--------	-----	------------	-----	--------

6- جمع لفظ کی نشان دہی کریں:

(الف)	کرا	(ب)	عادات	(ج)	گھر	(د)	استعمال
-------	-----	-----	-------	-----	-----	-----	---------

سوال نمبر 2: فعل لازم کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔

(2)

سوال نمبر 3: اسمی میں صحت و صفائی کے موضوع پر کون بات کرتا ہے؟

(2)

سوال نمبر 4: حفظانِ صحت سے کیا مراد ہے؟

(2)

سوال نمبر 5: کون سی چیزیں حفظانِ صحت میں شامل ہیں؟

(1)